



داعش کی ہند پر یلغار کی بڑھک کی حقیقت تجزیہ ادارہ الفتن

خصوصی رپورٹ

داعش کی ہند پر یلغار کی بڑھک کی حقیقت

دو چار روز قبل داعش نے بھارتی مسلمانوں کو ہدف بناتے ہوئے ایک نئی شاہکار اور خوشنما قسم کی ویڈیو جاری کی۔

جس میں مختلف بھارتیوں کو دکھا جا سکتا ہے، جن میں تقریباً سب وہی ہیں جو داعش کے ظہور میں آئے۔ وقت مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں ملازمت کی وجہ سے رہائش پذیر تھے۔

جبکہ گنہ چنہ دین پسند لوگ شاید بھارتی سے "جرت" کر کے اس "خلافت" میں بھرتی ہوئے تھے، ان کو مختلف معاملات کرتے، تربیت، معرکہ اور شہید ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور ہند کو نئی دھمکی آمیز لہجہ میں پیغام دیا گیا ہے کہ ہم تیری طرف آ رہے ہیں۔

یہ تو تھی ویڈیو کی مختصر تفصیل...



اب زرا اس ویڈیو کے جاری ہونے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔

مثلاً؛

؟ سب سے پہلا اور بنیادی پہلو یہ تھا کہ داعش کا یہ کہ وہ بھارتی مسلمانوں میں، ہندو انتہاء پسندی کی وجہ سے تیزی سے پھیلتی رہ چینی کو کیش کروانا چاہتا ہے، جیسا کہ پہلے القاعدہ اور ٹی ٹی پی بھی کوشش کرتی رہی ہیں۔

؟ کیونکہ ایک عرصہ سے بھارتی مظلوم مسلمانوں کی امید کا مرکز پاکستان، پاکستانی افواج و آئی ایس آئی اور ہند میں دیگر جہادی حلقوں، جن کے ہند میں باقاعدہ نیٹ ورک بھی موجود ہیں اب داعش ان مظلوم اور اسلام پسند بھارتی مسلمانوں بلخصوص نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔

یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے داعش کے ساتھ شاندار باہمی تعلقات ہیں۔ یہی وہ واحد وجہ ہے کہ سینکڑوں یرغمال بنائے گئے ہندو شہریوں کو ششما سوراج اور اجت کمار دول با آسانی اور با حیات چھڑوا کر واپس لاکھے ہیں۔

اسی کے پیش نظر ایک رپورٹ میں یوں بتایا گیا:

داعش کا ہند و سندھ کے متعلق نیا اعلامیہ

داعش کی جانب سے ہندو بارے ویڈیو ریلیز کے دو دن

بعد ہی اب یہ خبر سامنے آئی کہ داعش نے دو بھارتی شہریوں کو تنظیم میں ترقی دی ہے، جن کا تعلق ریاست مہاراشٹرا سے ہے، ہند کے حوالہ سے ان کے ذمہ اہم کام لگا دیا ہے۔

؟ ان میں سے ایک کلیان علاقہ کا **فہد تنویر شیخ** ہے، جسے نائب خلیفہ مقرر کیا گیا ہے اور اسے اب **ابو بکر الہندی** کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نائب خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ، اس کے ذمہ ہندوستان میں مہمات کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔

؟ اس کے علاوہ ایک دوسرے نوجوان جس کا نام **امان نعیم تنزیل** ہے اور وہ بھی اسی علاقہ کا رہنے والا ہے، کو ہند و سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے اور اسکا نام بھی تبدیل کر کے **ابو عمر الہندی** رکھ دیا گیا ہے۔

؟ تنظیم کی جانب سامنے آنے والے پیغام کے مطابق ان دونوں کے خلیفہ و تنظیم وفاداری کی وجہ سے ان کے دو بھائی لائے جانا گیا ہے۔ حالانکہ انکا تیسرا ہندوستانی ساتھی، **اریب مجید**، جو خلافت کے اس خوشنما جال میں شامل ہونے کے لئے ہندوستان چھوڑ کر مذکورہ بالا دونوں افراد کے ساتھ شام گیا تھا لیکن پھر داعش کی مسلمانوں اور مجاہدین کے خلاف بربریت دیکھ کر وہاں سے فرار ہو کر استنبول پہنچا تھا اور خود کو حکام کے حوالے کر دیا تھا۔۔۔

یہ رپورٹ ایک انگلش رپورٹ سے ماخوذ ہے، جس کو مکمل پڑھنے کے لئے ذیل میں **لنک** موجود ہے؛



بغدادی کی خلافت میں ترقی پانے والے ہندی دو باشندے

? **دوسرا بڑا مقصد** داعش کا یہ ہے کہ داعش کو چھوڑ کر واپس پلٹنے والے بھارتی مسلمانوں نے اپنے اور دیگر بھارتی و بنگلہ مسلمانوں سے ہونے والے ابتر سلوک پر سد پر دے اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ سب سے کم تر وہاں اگر سمجھا جاتا ہے تو وہ بھارتی داعشی جنگجوؤں کو سمجھا جاتا ہے۔

اکثر کو وہاں لڑنے کی بجائے یا کسی اچھے مقام کی بجائے جھاڑ پونچ، حجروں اور واش رومز کی صفائی وغیرہ یوٹیز دی جاتی ہیں۔۔۔

اس ویسے یو کا مقصد داعش کا اپنے بارے پاک و ہند میں پھیلے بھیانک تاثر کو زائل کرنے کی کوشش ہے۔

? ہم جانتے ہیں کہ داعش نے جب بھی کسی مسلمان ملک کو دھمکی آویز ویسے یو میں ہدف بنایا ہے تو اس میں اس ملک کے کسی فوجی یا عام شہریوں کو لازمی ذبح یا قتل کرتا دکھایا جاتا ہے لیکن ابھی نے اسرائیل اور نے ہی تازہ بھارت شکن ویسے یو میں کسی یودی یا ہندی کی بلی چڑھائی گئی ہے۔

اس ویڈیو کی اشاعت کے حوالے سے ، داعش کو مزید
کئی پہلو پر اس کے فائدوں کا تذکرہ ہو سکتا ہے مگر
بڑے اور واضح اہداف جو تھے وہ اوپر بیان کر دیے
ہیں۔

وماعلینا الاالبلاغ المبین

تجزیہ؛ ما نیٹرنگ سیکشن، ادارہ الفتن